

کردار سازی کے عناصر (مسلم مفکرین کی آراء کا جائزہ)

The Character Building Elements

(A Review of Muslim Scholars Views)

Hina Sajjad

Prof.Dr. M.Humayun Abbas Shams

Abstract

Human being is an indispensable part of the world of existence and there is a deep connection between his/her character and human society. It is important for human beings to know their purpose of existence, the nature of their relationship with the universe, and the kind of behavior in this world. Islam has guided Humans well in this respect and Muslim thinkers have always discussed the constituent elements of human character building. Muslim scholars, like *Imam Ghazali* in the 5th century AH, *Khawja Nasir al-Din* after him, and later *Allama Muhammad Iqbal*, have discussed internal and external dimensions of Human character in a synthetic way, have identified causes and elements of its internal and external reflections and the diseases and remedies associated with them.

Key Words: Character, Building, elements, *Imam Gazali*, *Khawja Nasir*, Allama Iqbal, Analysis.

خلاصہ

انسان عالم ہستی کا ایک لازمی حصہ اور انسانی کردار کا اس کے سماج کے ساتھ گہرا تعلق پایا جاتا ہے۔ انسان کے لئے اپنے مقصد حیات کو تلاش کرنا اور یہ دیکھا ضروری ہے کہ اس کا بنا کے ساتھ اس کا تعلق کس طرح کا ہے اور اسے اس دنیا میں کس قسم کا رو یہ اختیار کرنا ہے؟ اس حوالے سے اسلام نے انسان کی بہترین رہنمائی کی ہے اور مسلم مفکرین نے ہمیشہ انسانی کردار کے تشکیل و بنندہ عناصر پر بحث کی ہے۔ پانچویں صدی میں امام غزالیؒ نے، ان کے بعد خواجہ نصیر الدین طوسیؒ نے اور پھر علامہ محمد اقبالؒ جیسے مسلمان دانشوروں نے انسانی کردار کے اندر ورنی و بیرونی پہلوؤں کو ہم آہنگ کر کے پیش کیا ہے اور اس کی داخلی و خارجی کیفیتوں کے اسباب و عناصر بیان کیے ہیں۔ اس مقالہ میں ان آراء کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔

کلیدی کلمات: کردار، سازی، عناصر، امام غزالی، خواجہ نصیر، علامہ اقبال، جائزہ۔

کردار کی اہمیت

اس میں شک نہیں کہ انسان کی زندگی ایک نقطہ آغاز رکھتی ہے مگر انسان عالم ہستی کی تشکیل کا ایک حصہ اور اپنی دنیا اور سماج کی ایک بنیادی اکائی ہے۔ اس لیے ہمیں دنیا میں اپنے مقصد حیات کو تلاش کرنا ہو گا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کائنات کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح کا ہے؟ کائنات میں ہمارا مقام کیا ہے؟ اور ہم دنیا میں کس قسم کارروائی اختیار کریں تاکہ یہ کائنات میں ہمارے مقام سے مناسبت رکھتا ہو؟ نیز یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ خود انسان کی اپنی حقیقت کیا ہے؟ اس سلسلے میں اسلام نے انسانی کردار کو سنوارنے اور معیاری بنانے میں بہترین رہنمائی کی ہے: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** (4:95) ترجمہ: ”بے شک ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے (عقل و شکل کے اعتبار سے) بہترین اعتدال پر۔“ دراصل، ماواہ اور روح کے عناصر کے امتزاج اور اس بہترین اعتدال سے بہترین انسانی کردار تشکیل پاتا ہے۔ پھر خداوند تعالیٰ نے پیغمبر اکرم حضرت محمد ﷺ کو انسانی کردار کے لئے بطور بہترین نمونہ پیش کیا ہے: **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ** (33:21) یعنی: ”بے شک تمہارے لیے رسول اللہ ﷺ کی سیرت و کردار میں بہترین نمونہ ہے۔“ بنابریں، اسلام میں انسانی کردار کو بہت اہمیت دی گئی ہے اور کردار سازی پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آپ ﷺ کے فرمان مبارک ہیں:

1. انبابعشت لاتیم مکار م الاحق ¹ ترجمہ: ”مجھے اعلیٰ کردار کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے“
2. ان من أحبكم إلٰي و أقربكم مني مجلس أيوم القيامة أحاسنكم أخلاقاً ² یعنی: ”روزِ جزا تم میں سے میرے سب سے قریب وہ ہو گا جس کا کردار بہترین ہو گا۔“

3. انا زعيم ببيت في ربع الجنـة لـمـن ترك البراء ، وـ ان كان مـحقـاً ، وـ بـبيـت في وـسط الجنـة لـمـن ترك الـكـذـب ، وـ ان كان مـازـحاً ، وـ بـبيـت في أـعـلـى الجنـة لـمـن حـسـن خـلـقـه ³ یعنی: ”میں جنت کے احاطے میں ایک گھر کا وعدہ کرتا ہوں انسان کے لئے جو لڑائی جھگڑا نہ کرے حتیٰ کہ وہ صحیح ہو، ایک گھر جنت کے درمیان میں اس انسان کے لئے جو مناق میں بھی جھوٹ نہ بولے اور جنت میں اعلیٰ مقام پر اس انسان کے لئے جو اپنا کردار اچھا کرے۔“

4. ما من شئ اثقل فـي مـيزـان المؤـمن يـوم الـقيـامـة مـن حـسـن الخـلـق ⁴ یعنی: ”روزِ جزا ایک مومن کے پلڑے میں اچھے کردار سے زیادہ بھاری کچھ نہیں ہوگا۔“

ان احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی تکمیل، دراصل، اس کے اعلیٰ کردار کی تکمیل سے ہی ممکن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مسلم فکر میں ”انسانی کردار“ کا موضوع بہت اہمیت کا حامل رہا ہے۔ مسلم فکر میں اس موضوع پر کام نہ صرف قلمی طور پر ہوا ہے بلکہ عملی طور پر بھی اس موضوع پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ اس حوالے سے مسلم فکر کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انسانی کردار پر جو کام یہاں ہوا اس کی بازگشت مغربی فکر میں اٹھا رہیں اور بیسویں صدی میں ملتی ہیں۔ حضرت علی ہبیرؓ کے نزدیک انسانی کردار میں بنیادی اہمیت ”حوالہ خمسہ“ کو حاصل ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ: ”میں نے حضور اکرم ﷺ کی خواب میں زیارت کی تو عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی نصیحت فرمائی۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: احبس حواسک یعنی: ”اپنے حواس کو قابو میں رکھو۔“ حواس کو قابو میں رکھنا مکمل مجاہدہ ہے۔ کیونکہ تمام علوم کا حصول انہی پانچ دروازوں سے حاصل ہوتا ہے۔ ایک سے ۲۔ سو گھنٹے سے ۳۔ چھنٹے سے ۴۔ سننے سے ۵۔ چھونے سے۔ یہ پانچ دروازوں سے حاصل ہو جائیں۔ اول چار کے لئے تو ایک مخصوص جگہ ہے لیکن پانچوں تمام بدن کے حصہ میں پھیلا ہوا ہے آنکھ جو دیکھنے کی جگہ ہے وہ خبر اور آوازوں کو سنتا ہے اور زبان ذائقہ اور چکھنے کا مقام ہے وہ مزہ اور بے مزہ کو پہچانتی ہے۔ ناک سو گھنٹے کا مقام ہے جو خوبصورت بدوکا اور اک کرتی ہے اور لسم یعنی چھونے کے لئے کوئی مقام خاص نہیں بلکہ تمام جسم میں اس کا دراک پھیلا ہوا ہے انسان کے تمام اعضا میں نرمی و گرمی، سختی و سردی کا احساس ہوتا ہے کوئی علم ایسا نہیں ہے جسے انسان معلوم کرنا چاہے مگر وہ انہیں پانچ دروازوں سے ہی حاصل کرتا ہے (بجز بدیکی باتوں اور حق تعالیٰ کے الہام کے کیونکہ ان میں نہ آفت جائز ہے اور نہ ان کے لئے پانچ حواسوں کی ضرورت ہے)۔⁵

اسی طرح ابن سیدنا ”انسانی زندگی پر ارادے اور جذبات کے کردار“ کو نمایاں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مضبوط وقت ارادی کے بل پر انسان اپنی کمزوریوں پر قابو پا سکتا ہے مثلاً اپنی بیماری پر فتح پا سکتا ہے لیکن اگر وہ ہمت ہار دے تو اس کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے۔⁶ امام رازی کا کہنا ہے کہ: ”کسی بھی نظام فکر میں کردار کی نمودار علاج کے حوالے سے جو بات سریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے وہ اس کا تصور انسان ہے۔ جیسا تصور انسان اور کائنات ہو گا ویسا ہی کردار پر وان چڑھے گا اور اسی لحاظ سے اس کا علاج ہو گا۔“⁷ شاہ ولی اللہؐ کے مطابق: ”سعادت انسان کے نفسی قوی کے ہم آہنگ تفاصیل سے وابستہ ہے۔ تفاصیل کی یہ صورت ایک مثالی حالت ہے جو تکمیل کی جانب لے جاسکتی ہے۔ شاہ ولی اللہؐ حرکات کی اہمیت پر سور دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں خارجی کردار کے ثابت یا منفی ہونے کا تعین کردار کے نفسی منابع سے وابستہ ہے۔ زندگی مقصدیت سے معمور ہے۔“⁸

کردار کی اہمیت کے حوالے سے ان شخصیات میں سے بعض نے حواسِ خمسہ پر اور بعض نے صورات، حرکات قوت ارادی کو کردار سے منسوب کیا ہے۔ ذیل میں کردار سازی کے مسئلہ پر امام غزالی، خواجہ نصیر الدین طوسی اور علامہ محمد اقبال کے نظریات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے۔

امام غزالیؒ اور کردار سازی

حضرت سیدنا امام غزالیؒ کی تئیت ابو حامد، لقب حجۃ الاسلام اور نام نامی اسم گرامی محمد بن محمد بن احمد طوسی غزالی شافعیؒ ہے۔ آپؒ ۲۵۰ھ (۱۰۵۸ء) میں خراسان کے ضلع طوس کے علاقے طابران میں پیدا ہوئے۔⁹ اور بروز پیرو ۱۳ جمادی الآخر ۵۰۵ھ (۱۱۱۴ء) میں بمقام طابران (طوس) میں انتقال فرمایا اور وہیں مدفون ہوئے۔¹⁰ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ قدرت نے اپنی تدبیر سے امور میں تصرف فرمایا ہے، مخلوق کی ترتیب میں اعتدال قائم کرتے ہوئے اس کی صورت میں حسن رکھا ہے، انسانی صورت کو اچھے قالب سے زینت دی ہے، انسان کو شکل و صورت اور مقدار میں کمی زیادتی سے محفوظ رکھا ہے، کردار کو اچھا بنانے کا کام انسان کی کوشش میں رکھا ہے انسان کو مقصدیت دیتے ہوئے کردار کو سنوارنے کی ترغیب دی ہے۔ جب کہ برادر زہر قاتل، جان لیوا اور ذلت و رسوانی جیسی برا بیویوں پر مشتمل ہے۔ آپؒ کے نزدیک برے کردار جسم و روح کی وہ بیماریاں ہیں جن سے ابدی حیات ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ باطن کی بیماریوں سے دامنی و ابدی زندگی ختم ہو جاتی ہے، کوئی بھی باطن بیماریوں سے خالی نہیں ہوتا ہے اگر باطن کو اسی ہی طرح بلا علاج چھوڑ دیا جائے تو کوئی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں اور وہ غالب بھی آجائیں گی اسی لیے ہر انسان کے لئے لازمی ہے کہ وہ کردار کی ان بیماریوں کی پہچان، وجوہات، اور اسباب کو پہچاننے اور ان کے علاج کی انتکب کوشش کرے۔ امام غزالیؒ کردار کے حوالے سے احیاء العلوم میں مختلف شخصیات کے اقوال پیش کرتے ہیں۔ جو کہ مندرجہ ذیل ہیں۔

(1) حضرت سیدنا حسن بصریؒ فرماتے ہیں ”جس انسان کا کردار بُرا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو عذاب میں بدلنا کرتا ہے۔“

(2) حضرت سیدنا وہب بن منبهؓ فرماتے ہیں بد کردار انسان کی مثال اس ٹوٹے ہوئے گھڑے کی طرح ہے جو قبل استعمال نہیں رہتا۔“

(3) حضرت سیدنا ابو بکر ستّانی فرماتے ہیں کہ تصوف حسن کردار کا نام ہے تو جو انسان تمہارے حسن کردار میں زیادتی کا باعث ہے گویا اس نے تمہارے اندر تصوف کو بڑھایا ہے۔“

(4) حضرت سیدنا علی المرتضیؑ کا فرمان ہے ”حسن کردار تین چیزوں کا نام ہے۔“

- ۱۔ حرام سے ابتناب ۲۔ حلال کا حصول ۳۔ اہل و عیال پر خرچ میں کشادگی کرنا۔ ”
- ۵) حضرت سیدنا حسن بصریؑ فرماتے ہیں ”حسن کردار، خوش مزاجی، مال خرچ کرنے اور ایذار سانی سے باز رہنے کا نام ہے۔“
- 6) حضرت سیدنا ابو عثمان مغربیؑ فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا حسن کردار ہے۔“
- 7) حضرت سیدنا ابو بکر محمد بن موسیٰ واصطحیؑ فرماتے ہیں ”حسن کردار یہ ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی خوب معرفت کی وجہ سے نہ کسی سے لڑے اور نہ ہی کوئی اس سے لڑے۔“
- 8) حضرت سیدنا سہل بن عبد اللہ تستریؑ سے کسی نے پوچھا ”حسن کردار کیا ہے؟ تو آپؑ نے فرمایا حسن کردار کا ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ”خُل مزاجی کا مظاہرہ کیا جائے، انتقام نہ لیا جائے، ظالم پر شفقت و مہربانی کی جائے اور اس کے لئے دعائے مغفرت کی جائے۔“

ان تعریفات میں ظاہری و باطنی کردار کی برائیوں اور اوصاف کو ہر ایک نے اپنے اپنے تجربے اور علم کے مطابق پیش کیا ہے۔ آپؑ فرماتے ہیں یہ اور اس طرح کے دیگر جو اقوال ہیں یہ سب حسن کردار کے ثمرات و متأنج ہیں۔ حسن کردار کی ذات سے ان کا کوئی تعلق نہیں علاوہ ازیں جہاں تک ثمرات و متأنج کی بات ہے تو ممکن طور پر ان کا احاطہ بھی نہیں کیا گیا، آپؑ کے نزدیک حقیقت حال سے پرده اٹھانا مختلف اقوال کو ذکر کرنے کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہے۔¹¹

حسن کردار اور چماتِ ثلاثہ

آپؑ کے نزدیک حسن کردار کبھی تو طبعی اور فطری طور پر ہوتے ہیں اور کبھی عادت ڈالنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور کبھی نیک لوگوں کو دیکھنے اور ان کی صحبت اختیار کرنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے خیر و شر دونوں حاصل کرتی ہے اس لیے جس شخص میں تین چمات جمع ہو جائیں یعنی طبعاً، عادتاً اور اکستاً انصافیت کو پہنچا ہو تو یہ شخص انتہائی درجے کی فضیلت کا حاصل ہے اور جس میں ان تین چمات کا اختلاف ہے تو وہ دو مرتبوں کے درمیان ہوتا ہے ہر ایک کا قرب و بعد اس کی صفت و حالت کے اعتبار سے ہے۔¹²

۱۔ خلق: آپؑ جسم انسانی اور اس کے نتیجے میں ظاہری اعضاء سے پیش ہونے والے اعمال کے لئے خلق کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں۔

۲۔ مُلْقَ: آپؑ باطن انسانی اور اس سے مسلک مختلف قوتوں کو خلق کا نام دیتے ہیں۔

۳۔ خلقِ کردار کے ارکان:

۱۔ قوتِ علم ۲۔ قوتِ غصب ۳۔ قوتِ شہوت ۴۔ قوتِ عدل

۴۔ خلقِ کردار کے اصول:

۱۔ حکمت ۲۔ شجاعت ۳۔ عفت ۴۔ عدل^{۱۳}

خلقِ کردار کی مختلف حالتوں میں پیدا ہونے والی مختلف صفات

خواہشات کی پیروی کرنے سے انسان میں بے حیائی، خباشت، اسراف، کنجوی، ریاکاری، رسولی، پاگل پن، بے ہودگی، حرص ولاچ، خوشامد، حسد، کینہ اور شماتت جیسی بری صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ غصے کو اپنے اوپر سوار کرنے سے خلق میں نامناسب امور پیدا ہو جاتے ہیں مثلاً چھپوراپن، تکبر، گھمنڈ، خود پسندی، گالی گلوچ، حقیر جاننا اور ظلم جیسی بری صفات جنم لیتی ہیں۔ الغرض خواہش و غصے کی پیروی کرنے سے انسان میں مکروہ فریب، حیله بازی، مکاری، دغا بازی، بے باکی، اور نخش گوئی جیسی بری عادات پیدا ہو جاتی ہیں۔ خواہشات کی پیروی سے نچھنے اور انہیں اعتدال پر رکھنے کے سبب اس میں پاکدا منی، قناعت، نرمی، زہد و تقویٰ، خوش مزاجی، حیا، ظرف، دوسروں کی مدد اور ان جیسی دیگر اچھی صفات پیدا ہو جاتی ہیں، غصے پر قابو پانے اور اسے ضرورت تک محدود کرنے کے سبب اسے شجاعت و وقار، دلیری، ضبط، نفس، صبر، بردباری، برداشت، درگزرنیکیوں پر استقامت جیسی عظیم نعمتیں حاصل ہو جاتی ہیں۔^{۱۴}

خلقِ کردار میں خیالات و اثرات کے دخول و نتائج

خلقِ کردار (باطن) میں ہر وقت آنے والے نئے نئے اثرات کا داخلہ یا تو ظاہر یعنی حواسِ غمہ سے ہوتا ہے یا باطن سے جیسے خیال، خواہشات، غصب، اور انسان کی اصل خلقت سے مرکب اخلاق، کیوں کہ جب انسان حواس کے ذریعے کسی چیز کا ادراک کرتا ہے تو اس سے دل میں ایک اثر پیدا ہوتا ہے۔ اگر انسان وہ اثر قبول کرنے سے خود کو بچا لے تو باطن میں حاصل ہونے والے خیالات باقی رہتے ہیں اور خیالات بدلتے رہتے ہیں اور جب خیالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں تو دل بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ دل کا مسلسل بدلتے رہنا اور اثر قبول کرتے رہنا ان اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ باطن میں حاصل ہونے والے اثرات میں سب سے خاص اثر خواطر (خیالات) ہیں اور خواطر سے آپ کی مراد دل میں پیدا ہونے والے افکار و اذکار ہیں اور افکار و اذکار سے مراد دل کا نئے سرے سے یا یاد دہانی کے طور پر علوم کا ادراک کرنا ہے اور انہیں خواطر اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ یہ اس وقت آتے ہیں جب دل ان سے غافل ہو جاتا ہے اور خواطر ہی ارادوں کو حرکت دینے ہیں کیوں کہ نیت، عزم اور ارادہ دل میں

موجود افعال کی فکروں کے بعد ہی ہوتا ہے تو افعال کی بنیاد خواطر ہیں۔ خاطر سے رغبت کو حرکت ملتی ہے، رغبت سے عزم کو، عزم سے نیت کو اور نیت سے اعضاء کو تحریک ملتی ہے۔ رغبت کو متحرک کرنے والے خواطر کی دو اقسام ہیں جو خیر و شر کی طرف بلاتے ہیں۔ چونکہ یہ دونوں خواطر مختلف ہیں اس لیے ان دونوں کے الگ الگ نام رکھنے کی ضرورت ہے۔ قابل تعریف خاطر کو ”الہام“ کہا جاتا ہے۔ اور قابل مذمت خاطر کو ”وسوسہ“ کہا جاتا ہے۔ آپ[ؐ] کے نزدیک ہر حادث کے لئے محدث (یعنی پیدا کرنے والے) کا ہونا ضروری ہے اور جب حادث مختلف ہیں تو یہ اس بات پر دلالت ہے کہ ان کے اسباب بھی مختلف ہوں گے۔¹⁵

خُلق کردار میں معلومات کے تعلق کی اہمیت

آپ[ؐ] کے نزدیک بظاہر کوئی چیز کپڑنے کے لئے تین امور درکار ہوتے ہیں مثلاً :

1. جس سے کپڑا جائے جیسے ہاتھ۔
2. وہ شے جسے کپڑا جائے جیسے توار۔
3. توار اور ہاتھ کا باہم ملنا یعنی توار کا ہاتھ میں آنا۔

جس طرح ان امور سے حاصل ہونے والی کیفیت کو ”قبضہ“ کہتے ہیں ایسے ہی معلومات کا دل میں منقش ہو جانا ”علم“ کہلاتا ہے۔ بعض اوقات کسی شے کی حقیقت پائی جاتی ہے اور دل بھی موجود ہوتا ہے لیکن علم حاصل نہیں ہوتا کیونکہ علم ”اشیا کی حقیقت دل میں نقش ہو جانے“ کو کہتے ہیں۔

آنینہ میں خُلق کردار کی صورتیں ظاہر نہ ہونے کی وجوہات

آپ[ؐ] کے نزدیک پانچ وجوہات کی بنا پر آئینہ میں اشیاء کی صورتیں ظاہر نہیں ہوتیں:

- 1) خود آئینہ میں کمی ہو مثلاً لوہے کو بغیر پالش وغیرہ کے بطور آئینہ استعمال کیا جائے۔
- 2) لوہا گرچہ پالش وغیرہ کر لیا جائے لیکن وہ خود بے حد خراب ہو۔
- 3) شے خود آئینہ کے پیچھے ہو۔
- 4) آئینہ اور اس کے سامنے موجود شے کے درمیان پرده حائل ہو۔
- 5) مطلوبہ شے کی سمت معلوم نہ ہو کہ اس کی طرف آئینہ کو پھیرا جائے۔

حرکات کی اقسام

امام غزالی[ؓ] کے نزدیک حرکات کی مختلف اقسام ہیں۔

الف۔ انسانی حرکات طبیعت اور فطرت کے لحاظ سے

انسانی طبیعت اور فطرت کے لحاظ سے آپؐ انہیں بسمیلہ، سبعیہ، شیطانیہ اور ربانیہ میں تقسیم کرتے ہیں۔

۱۔ بسمیلہ سے مراد جانوروں جیسے میلانات جیسے معدے اور جنس کی بھوک مٹانا۔ اس سے جو استعدادت اور اخلاقی

عادات بنتی ہیں ان میں بے حیائی، خباثت، فضول خرچی، بخل، فحش گوئی، حرص و لالج اور خوشامد وغیرہ

۲۔ سبعیہ سے مراد درندوں جیسے میلانات ہیں جیسے بغض و عدوات۔ اس سے غصہ، غلبہ اور استھصال جیسی عادتیں

بنتی ہیں۔

۳۔ شیطانیہ سے مراد وہ میلانات ہیں جو بسمیلہ اور سبعیہ کے بیچاء ہونے سے بنیں جن سے حیله، مکر، فریب اور دغابازی جیسے اخلاق پروان چڑھتے ہیں۔

۴۔ ربانیہ سے مراد وہ میلانات ہیں جن کے مطابق انسان اپنے اندر الوہی صفات کا طلب گار بننے جیسے کبر، فخر، مدرج پسندی، حب جاہ اور حب بقاء دوام اور اُس کے ساتھ ہی حب علم و حکمت اور یقین۔^{۱۶}

ب۔ انسانی حرکات، بقاء کے لحاظ سے

امام غزالیؒ کے نزدیک انسانی حرکات کی ایک تقسیم اس کی بقاء کے حوالے سے ہے جس کی تین صورتیں ہیں۔

ا۔ میلانات فردیہ

جن پر انسانی بقاء کا انحصار ہے یعنی طعام اور جنس اور اس سے متفرع ہونے والے دوسرے میلانات جیسے حب دنیا، حب جاہ، اور حب ملکیت۔

۲۔ میلانات اجتماعیہ

میلانات اجتماعیہ جیسے خاندان، قبیلہ اور معاشرہ میں مل جل کر رہنایہ میلانات بقاء فرد کے بنیادی میلان کے بعد دوسرے نمبر پر آتے ہیں۔

۳۔ میلانات عالیہ:

میلانات عالیہ جن میں حب خیر، علم بحالیات، دینی حقوق وغیرہ شامل ہیں جو زندگی میں حسن اور کمال کا لوازمہ ہیں۔^{۱۷}

حرکات کی خصوصیات

امام غزالیؒ جیسے بنیادی و فطری حرکات پر تفصیل روشنی ڈالتے ہیں اسی طرح ان حرکات کے فضائل و رزاکل اور اقسام و انواع پر بھی تفصیلی بحثیں کرتے ہیں۔

۱۔ حکمت اور اس کی افراط و تفریط (یعنی مشبت و منفی پہلو)

حکمت کے ماتحت حسن تدبیر جو دت ذہن، نقایت الرائی اور صواب ظن کا اندر اج ہو گا۔

حسن تدبیر: سے مراد یہ ہے کہ عظیم الشان نیکیوں اور نیک اغراض کے حصول میں جو تدبیر منزل سیاست مدینہ دفاع دشمن اور رفع شر کے معاملات انسان سے متعلق ہیں یادوں سروں سے استنباط نتائج کے ذریعہ ایسی صائب رائے قائم کرو جو افضل اور اصلح ہو غرض یہ کہ ہر ایک ممکن بالشان امر میں یہ بات حاصل ہو لیکن اگر معاملہ حقیر اور آسان ہو تو اس کے متعلق جو غور و فکر ہو گا اسے حسن تدبیر نہ کہیں گے اسے محض اندازہ کہہ دینا کافی ہو گا۔

جودت ذہن: یہ ہے کہ جب رائے مشتبہ ہو جائیں اور ان میں بحث و نزاع در پیش ہو تو درست فیصلہ دینے کی قابلیت حاصل ہو۔

نقایہ رائے: کا مفہوم ہے پیش آمدہ امور کے بارے میں جو جو اسباب و بوعاث دل پسند نتائج برآمد کرنے والے ہوں ان پر تیز دستی سے پہنچ کر قائم ہو جائے۔

صواب ظن: یہ ہے کہ بغیر دلائل لگانے کے مشاہدات پر بھروسہ کرتے ہوئے حق کی موافقت کی جائے۔ مکاری کے تحت حد سے زیادہ تیز فہمی اور فریب کاری کا اندر اج ہو گا اول الذکر سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی حد سے بڑھی ہوئی عقلمندی کے باعث کسی کام کے سرانجام دینے میں ایسے طریق کار سے کام لے جن کو وہ اچھا سمجھتا لیکن حقیقت میں وہ ابیجھے نہ ہوں البتہ ان میں نفع خاصہ ہو اگر نفع خسیں ہو تو اسے فریب کاری کہیں گے حد سے زیادہ تیز فہمی اور فریب کاری میں فرق صرف ذلت اور شرافت کا ہے۔

سادہ لوگی: کے ماتحت ناجربہ کاری حماقت جنون کے نام آئیں گے۔

ناجربہ کاری: یہ شخص وہ ہے جس کو دنیا کے وسیع سمندر میں اتر کر اس کے معاملات کے تجربوں کااتفاق نہ ہوا ہو۔ سلامت ذہن کے باوجود عملی باقی میں بالجملہ قلت تجربہ کا نام ہے اگر ایک بات کا انسان کو تجربہ ہو چکا ہے تو وہ اس میں آز مودہ کا رہے ورنہ نا آز مودہ کا رجم طور پر ناجربہ کا رہے۔

حماقت: یہ ہے کہ انسان منزل مقصود پر پہنچنے کے درست راستے کے لئے میں ہی غلطی کرے اور دوسرا راستے پر چل پڑے حماقت اگر پیدا کئی ہو تو اسے حماقت طبعی کہیں گے اور یہ علاج پذیر نہیں۔ اور بعض اوقات کسی مرض کے باعث بھی ذہن بگڑ جاتا ہے اس لئے جب وہ مرض دور ہو جائے تو حماقت بھی دور ہو جاتی ہے۔

جنون: یہ فساد تخيیل کا دوسرا نام ہے اس میں انسان ناقابل قبول شے کو قابل قبول شے پر ترجیح دیتا ہے یہاں تک کہ اس کا قرعہ انتخاب ہمیشہ غلط شے پر پڑتا ہے۔ جنون کی خرابی اس کی غرض اور حماقت کی خرابی کرنا کیوں کہ

احمق کی غرض و غایت بھی عاقل کی سی ہوتی ہے اس لئے ابتداء میں اس کا اثر ظاہر نہیں ہوتا تو اس کی یہ قوی اظہر من الشّمْسُ ہو جاتی ہے جنون چونکہ فساد و غرض ہے اس لئے شروع ہی میں ظاہر ہو جاتا ہے۔

شجاعت کی افراط و تفریط

شجاعت کے عنوان کے ماتحت جود و کرم، دلیری، خودداری، برداشت، برداری، ثابت قدمی، شہاست قدر دانی اور وقار آتے ہیں۔ جود و کرم کنجوں اور اسراف کے بین بین ہے اس سے مراد ہے جلیل القدر اور عظیم الشفع امور میں خوشی سے خرچ کرنا اس کو آزادروی اور حریت بھی نام دے لیتے ہیں دلیری، یہ جسارت اور بزدیلی کا درمیانی نکتہ ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ ضرورت کے وقت انسان بے دھڑک اور بے خوف ہو اور موت کے منہ میں جانے سے اس کا دل نہیں کھبرائے۔

خودداری: یہ تکبیر اور پیچ میرزی کے بین بین کا مقام ہے اس وصف کے ذریعہ انسان اس بات پر قادر ہو جاتا ہے کہ امور جلیلہ کو باوجود ان کو حقیر سمجھنے کے اپنی جان کا پیوند بنائے اس کا نشان یہ ہے کہ انسان علماء کی عزت کرنے میں خوشی حاصل کرے اور فرمایا لوگوں کے اکرام و عزاز میں مسرت نہ پائے ادنیٰ امور میں اسے کوئی لطف نہ ملے اور نہ ہی اتفاقات حسنہ خوش نصیبی کے طور پر جو مفاد و منفعت حاصل ہوا اس سے اس کے دل میں فخر اور خوشی پیدا ہو۔

برداشت: یہ جسارت اور بے صبری کے بین بین ہوتی ہے اس سے مراد ہے تکلیف دہ اور ایذار سان امور سے نہ کھبر اجانا۔

حلم: حلم ظلم و سفا کی کے درمیان ہوتا ہے اس میں انسان کا دل و قار حاصل کر لیتا ہے۔

ثابت قدمی: کے معنی دل کا قوی ہونا ہے اور رہمت کا پیٹانہ ہونا ہے۔

شہامت: سے مراد ہے حسن و خوبی کے حصول کی امید میں سرگرمی عمل میں حریص ہونا۔

قدروانی: بڑے بڑے کار ناموں پر دل کا خوش ہونا۔ وقار یہ تکبیر اور اعسار کے بین بین ہوتا ہے۔

تکبیر: اپنے تمیں مقدور سے زیادہ بلند، مرتبہ سمجھنا۔

خنوت: تکبیر سے پیدا ہوتی ہے اس سے مراد ہے اپنی حقیقت کو نہ پچانا اور ناحق خیال کرنا کہ میں اعلیٰ مرتبہ پر قائم ہوں۔ لوگ تکبیر اور بخل کو فضول خرچی سے زیادہ ناپسند کرتے ہیں کیوں کہ یہ سب براء وصف ہیں۔ خستہ اور فضول خرچی اگرچہ براء اوصاف ہیں لیکن یہ تواضع اور سخاوت سے مشابہت رکھتے ہیں اس لئے پسند کیے جاتے ہیں پھر بھی حقیقت میں یہ منفی حرکات میں داخل ہیں۔

عفت کی افراط و تفریط

فضائل عفت میں حیا، میلا پن مسامحت، صبر و سخا، حسن تقدیر انبساط، نرم خوبی، انتظام خوبصورتی، قناعت، استغنا، ورع، ساعت، رشک اور ظرافت شامل ہیں۔ حیا شوخی اور زنانہ پن کے درمیان ہوتی ہے اس کی تعریف یوں ہے کہ یہ ایک قسم کارنخ ہے جو کسی کے عیب چینی سے دل میں پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ ایک خوف ہے جو انسان کے دل میں اپنے سے بزرگتر کے سامنے فرد مایہ ہونے سے پیدا ہوتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بری باقتوں کے پیش آنے سے چہرے پر جوانقباض پیدا ہوتا ہے وہی حیا ہے اور یہ تحفظ نفس ہے مذموم باقتوں سے غرض یہ ہے کہ حیا کا استعمال بری باقتوں سے گھیز کرنے کے لئے ہوتا۔

صبر: نفس انسانی کا ہواہ ہوس سے مقابلہ کرنا اور لذات قبیحہ سے دور رہنا۔

سخاوت: فضول خرچی اور انتہائی کنجوں کا وسطی مقام یعنی خرچ کرنے میں آسانی اور فضول شے کے حاصل کرنے سے اجتناب۔

حسن تقدیر: اخراجات میں بخل اور تبذیر سے احتراز کرتے ہوئے اعتدال اختیار کرنا۔

نرم خوبی: اشتیاق مشتیات میں نفس شہوانیہ کا انداز پسندیدہ۔ انتظام نفس کی وہ حالت جس میں اسے مناسب طور پر اخراجات کرنے کا اندازہ معلوم ہو جائے۔

خوبصورتی: جائز اور واجب زینت کا شوق جس میں رعونت کو دخل نہ ہو۔

قناعت: معاش حسن تدبیر جس میں فریب کاری کو دخل نہ ہو۔

استغنا: جو چیزیں لذات جملہ سے انسان حاصل کر چکا ہے اس پر دل کا قانع ہو جانا۔

ورع: ریا کاری اور رسائی کے بین بین یعنی اعمال صالحہ کے ساتھ نفس کو مزین کرنا کمال نفس اور قرب الہی کی طلب کے لئے اس میں نہ ریاء کو دخل ہوتا ہے نہ اعلان کو۔ طلاقت، بامذاق، خوش مزاجی جس میں فخش اور افراط کو دخل نہ ہو جدل ہزل کی افراط و تفریط کے درمیان وسطی مقام ہے۔

ظرافت: ترش روئی اور مسخر اپنے کے بین بین ہوتی ہے یعنی انسان مجلس میں حفظ مراتب کا لحاظ رکھ کر خوش طبع کا موقع محل دیکھ کر اس کے مطابق گفتگو کرے اور ہر ایک شخص سے اس کی اہلیت کے موافق پیش آئے۔

رشک: حسد اور شماتت کے ما بین یعنی غیر مستحق لوگوں کی آسائش اور کامیابی پر اور مستحق لوگوں کی تکلیف اور ناکامی غمزدہ ہونا۔

عفت کی افراط و تفریط کے تحت حسب ذیل امور درج ہوں گے۔ بے حیائی، زناہ پن فضول خرچی، بخوبی، ریاکاری ذلت پسندی، ترش روئی، بے ہودگی چھپورا پن، بدمزاجی تملق، حسد اور شماتت۔

فضول خرچی: عام طور پر مال خرچ کرتے وقت نہ موقع کا لحاظ کرنا، نہ بات کا دھیان اور دولت بر باد کیے جانا۔

بخوبی: جہاں مال خرچ کرنا واجب ہے، وہاں ہاتھ کھیجیں لینا، اس کے تین اسباب ہیں بغل شخ اور لئامت، ان میں سے ہر ایک کا ایک رتبہ ہے۔

بخل: تو وہ ہوتا ہے جو خرچ کرنے میں حد سے زیادہ کمی کرتا ہے اس خوف سے کہ تنگست اور مفلس ہو جاؤں گا تو کھاؤں کا کھاں سے اور ایسا نہ ہو کہ دشمن ذلیل کر ڈالیں بخل کا سبب خیال کی بزدی ہے۔¹⁸

عفت کا اعتدال ان تمام ثبت حرکات کے مجموعے کا نام ہے اور اس کے بالکل مقابل کی حالت منفی حرکات کے مجموعہ کا نام ہے۔ امام غزالیؒ کو سببِ حرکات کے ساتھ ساتھ اقسامِ حرکات، ترغیبِ حرکات، اور حرکات کے نتائج کے بارے میں بہت اور اک حاصل تھا اور یہ آپؒ کے امہات موضوعات میں شامل ہیں۔ امام غزالیؒ نے کردار و شخصیت کی تربیت میں توازن کے لئے مادی و روحانی دونوں پہلوؤں پر اکٹھا نقطہ نظر پیش کیا ہے اور اس کے نتیجے میں ایک مضبوط کردار کی تصویر سامنے آتی ہے اس لیے آپؒ نے انسانی کردار کی تربیت کے لئے بھی چار نکات پیش کیے ہیں:

- ۱۔ ایمان بالله، علم و معرفت، تقویٰ اور عبادات کی ادائیگی کے ذریعے انسانی کردار کو قوت پہنچائی جائے۔¹⁹
- ۲۔ فطری تقاضوں اور حرکات و تاثرات اور انفعالات پر قابو رکھ کر خواہشاتِ نفس پر قابو پا کر کے انسان کے جسمانی پہلو کو حدِ اعتدال میں رکھا جائے۔
- ۳۔ انسانی کردار و شخصیت کو کمزور و ہلاک کرنے والی نفسیاتی بیماریوں کا شعور دیا جائے۔²⁰
- ۴۔ انسان کو ایسی خصلتیں اور عادات سکھائی جائیں جو اس کے تاثراتی سماجی، ماحولیاتی، معاشرتی حالات کے موافق ہوں۔²¹

اگر ہم یہ دعویٰ کریں کہ امام غزالیؒ نے احیاء العلوم کی تحریری تقسیم ہی انسانی کردار و شخصیت کو سمجھنے اور تربیت کے اصولوں کے مطابق کی ہے تو بے جانہ ہوگا۔ آپؒ نے احیاء العلوم کی پہلی جلد میں ہی عبادات پر زور دیا ہے اور جب ہم ان عبادات میں غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں ان عبادات کے انسانی کردار پر بہت اچھے اثرات نظر آتے ہیں مثلاً جب ہم نماز کی ادائیگی کی کیفیات پر غور و فکر کرتے ہیں تو تقریباً چھ ایسی اچھی خوبیاں ہیں جو انسانی کردار کو مضبوطی دیتی ہیں:

۱۔ حضورِ قلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو کچھ کر رہا ہے یا بول رہا ہے اس کے علاوہ کسی دوسری طرف اس کی توجہ نہیں ہے اور دل کو قول و فعل دونوں کا دراک ہو مطلب یہ ہے کہ متعلقہ کام سے توجہ غافل نہ ہو تو اسی صورت میں حضورِ قلب حاصل ہو جائے گا۔ آپ[ؐ] کے نزدیک حضورِ قلب کا سبب ”فکر“ ہے اور انسانی دل اپنی فکر کے تابع ہی ہوتا ہے اور جس چیز کی فکر ہوتی ہے انسانی دل بھی اسی کام میں مشغول ہوتا ہے نیز طبعی طور پر انسانی دل فکری امور میں خواہ مخواہ مشغول رہتا ہے اور جب دل نماز میں مشغول نہیں ہو گا تو فارغ نہیں بلکہ دنیاوی امور میں سے جن امور کی آدمی کو فکر ہو گی انہیں میں مشغول ہو گا۔

۲۔ فہم، یہ حضورِ قلب کے علاوہ دوسرا امر ہے کہ بسا اوقات دل لفظوں کے ساتھ تو حاضر ہوتا ہے مگر ان کے معنوں کے ساتھ حاضر نہیں ہوتا ہے اور جب فہم حاصل ہوتا ہے تو نماز بے حیائی اور برئے کاموں سے روکتی ہے کیوں کہ اس سے کئی امور سمجھ میں آتے ہیں اور یہ امور یقیناً بے حیائی سے بچاتے ہیں۔ فہم کا سبب ہی حضورِ قلب کے بعد فکر کو دائمی رکھنا اور ذہن کو معنی کے ادراک کی طرف پھیرنا ہوتا ہے جس کی وجہ سے انسان فکر پر متوجہ اور وسوسوں کو دور کرنے کے لئے مستعد رہتا ہے۔

۳۔ تعظیم، یہ ایک دلی کیفیت کا نام ہے جو دو چیزوں کی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ (۱) عظمتِ الٰہی کا معتقد ہونا (۲) نفس کی تھمارت و خسارۃ۔

۴۔ بیبیت، آپ[ؐ] کے نزدیک یہ تعظیم سے بھی بڑھ کر عمل ہے بلکہ اس سے مراد ایسا خوف ہے جو تعظیم سے پیدا ہوتا ہے کیوں کہ جسے خوف نہیں ہوتا اسے خوف زدہ نہیں کہا جاتا نیز بچھوکے ڈنے کی بیبیت، غلام کی بد خلقی اور اس جیسی ادنیٰ چیزوں سے ڈرنے کو بیبیت نہیں کہا جاتا بلکہ بیبیت ایسا خوف ہے جو جلال و تعظیم سے پیدا ہوتا ہے (کیوں کہ جلال و تعظیمِ الٰہی دل میں ہو تو اس خوف کا سبب بھی محبت ہے)۔

۵۔ رجاء (امید)، یہ مذکورہ تمام چیزوں سے ایک زائد امر ہے اور کامیابی ملنے کی امید، ثواب کا حصول وغیرہ انسانی کردار کو تازگی اور تندرست و توانار کھٹتے ہیں۔

۶۔ حیاء، یہ امر اپنی خطاط پر واقف ہونے اور اپنی غلطی کا وہم گزرنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تعظیم، خوف، اور رجاء آپ[ؐ] کے نزدیک حیاء کے بغیر بھی ہو سکتے ہیں مثلاً تقصیر (یعنی خططا) کا وہم اور ارتکابِ گناہ نہ ہو مگر حیاء پیدا نہیں ہو سکتے ہے۔²² اس لیے آپ[ؐ] انسانی کردار کے لئے ان چھ کیفیتوں کو ضروری قرار دیتے ہیں اور یہ کیفیتیں انسانی کردار سے جدا نہیں ہونی چاہیں اگرچہ ان کی قوت یقین کی قوت کے برابر ہو۔

امام غزالیؒ کے نزدیک انسانی خیالات کی بنیاد اچھی اور بری سوچوں پر ہے۔ اچھی آنے والی سوچیں ”الہام“ کا نام رکھتی ہیں اور بری آنے والی سوچیں ”وسوسوں“ کا نام رکھتی ہیں۔ الہام کی سوچیں اچھی فطرت اور سوچ پر مبنی ہوتی ہیں اور اس کے نتائج کردار کی خوبیوں کی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں مثلاً امید، عاجزی، قوتِ یقین، صبر، قناعت، شکر اور قوتِ ارادی وغیرہ۔ بری سوچیں کردار کی خامیوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں مثلاً تجسس، غیبت، جھوٹ، بدگمانی، حسد، تکبیر، کینہ و بغض اور نفرت وغیرہ۔²³

امام غزالیؒ کے نزدیک انسانی کردار خواہشات میں تین حالتوں میں ہوتا ہے:

۱۔ کبھی خواہشات انسانی کردار پر فتح حاصل کر کے قابض ہو جاتے ہیں اور وہ ان کے خلاف کچھ نہ کرنے کی طاقت رکھتا ہے عام طور پر لوگوں کی یہی حالت ہوتی ہے تو جس شخص کی ہر ایک حرکت بدنبال اغراض اور جسمانی خواہشات کی پیروی میں ہوں گی وہی خواہشات کے تابع ہو گا۔

۲۔ کبھی یہ شخص خواہشات پر غالب آ جاتا ہے اور کبھی خواہشات اس پر غالب آ جاتی ہیں۔ ایسا شخص مجاہدین میں شمار ہو گا۔

۳۔ کبھی وہ اپنی خواہشات کو پچھاڑ کر ان پر قابو حاصل کر لیتا ہے اور کسی وقت بھی وہ اس پر غالب نہیں ہو سکتیں ہیں۔ اسی عمل کو آپؐ ملک بکیر، نعیم حاضر، حریت کامل اور غلامیت سے پاک ہونا شمار کرتے ہیں۔²⁴

امام غزالیؒ کے نزدیک انسان کی حقیقت، اس کا نفس اور اس کی ذات یہی رباني طفیل ہے، مختلف حالتوں کے اعتبار سے اس کے اوصاف تبدیل ہوتے رہتے ہیں خواہشات سے مقابلہ کرتے کرتے جب یہ احکام الہی کا پابند ہو جاتا ہے اور اس کی بے قراری دور ہو جاتی ہے تو اس رباني طفیل کو نفس مطمئنہ کہا جاتا ہے، جب اس رباني طفیل کی بے قراری ملک دو رہے ہو (یعنی اسے خواہشات پر غلبہ حاصل نہ ہو) لیکن خواہشات کی مخالفت مسلسل کرتار ہے ان سے مقابلہ ہوتا رہے تو اس وقت اسے نفسِ لومہ کہا جاتا ہے کیوں کہ انسان جب اچھے اعمال میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے یہ ملامت کرتا ہے، اگر یہ ملامت کرنا چھوڑ دے اور خواہشات کی پیروی اور شیطانی بالتوں کی اتباع کرے تو اسے نفسِ امارہ کہا جاتا ہے۔²⁵

امام غزالیؒ کی رائے میں جب انسان کے اندر معرفتِ الہی اور معرفتِ ذات حاصل ہو جائے گی اور قوتِ ارادی ضبطِ نفس میں تبدیل ہو جائے گی تو یہ شیطانی سوچیں انسان کے تابع ہوں گی اور اسی حالت کو آپؐ نفسِ لومہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ امام غزالیؒ کی فکر میں انسانی رویوں اور اخلاقیات میں سب سے پہلے اہمیت تربیت و ماحول کو ملتی ہے اور پھر تربیت و ماحول کی وجہ سے ہی انسان اچھے اور برے خواطر ذہن میں لاتا ہے، تربیت ہی کی وجہ سے انسان کو شعور

حاصل ہوتا ہے اور انسان اپنی اندر ونی طاقتون کی پہچان اور ان کو اعتدال میں رکھنے کے قابل ہوتا ہے۔ تربیت ہی کی وجہ سے انسان اپنی ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے آپ کے نزدیک اپنی ذات کی معرفت ہی اصل کامیابی ہے جس کی وجہ سے اچھے برسے کی تیزی کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے اور اسی معرفت کی وجہ سے اچھے روئے تشکیل پاتے ہیں۔

امام غزالیؒ کے نزدیک جیسے معرفت نفس ضروری ہے اسی طرح معرفت افعال کا بھی جانا ضروری ہے جس طرح معرفت نفس معرفت ذات و صفات کی کنجی ہے معرفت افعال کی بھی کنجی ہے جب تک انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اسے اپنے بدن میں کیسے حکمرانی کرنی ہے اس وقت تک اسے یہ بھی معلوم نہیں ہو سکتا کہ اسے معاشرے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے اس لیے آپ پہلے اپنے آپ کی پہچان اور پھر اپنے ایک ایک کام کو جان سکتا ہے۔ اسی لیے آپ رغبت، نیت، ارادہ اور عمل پر کوئی قوتوں پر خصوصی توجہ دیتے ہیں۔²⁶

آپؒ کے نزدیک انسان کو دنیا میں فقط تین چیزوں کی ضرورت و حاجت ہے کھانا، پہننا اور گھر بھی تین چیزیں دنیا کی اصل ہیں دل کی غذا معرفت ہے وہ جتنی زیادہ ہواتی ہی بہتر ہوتی ہے جب کہ بدن کی غذا کھانا ہے لیکن وہ اگر حد سے زیادہ ہو تو ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے اسی لیے خواہش انسان پر متعین ہے تاکہ کھانے، کپڑے اور گھر کا تقاضا کرے تاکہ بدن جو انسان کی سواری ہے وہ ہلاک نہ ہو جائے اور اس خواہش کی خلقت و پیدائش ایسی نہیں جو ایک حد پر نہیں ٹھہر تی اور زیادہ بھی طلب کرتی ہے اس لیے عقل کو پیدا کیا گیا کہ خواہش کو ایک حد پر رکھے اس لیے خواہش کو بچپن میں ہی پیدا کیا گیا اور اس کے بعد عقل کو پیدا کیا گیا جو نکہ خواہش پہلے پیدا ہوئی تھی اس لیے اس نے جگہ حاصل کر لی اور غالب آگئی۔²⁷ امام غزالیؒ کے نزدیک طہارت کردار کے چار درجات ہیں:

(1) اندر ونی پاکیزگی۔

(2) حسد، تکبر، ریا، حرص، عداوت، رعونت وغیرہ سے باطن کو پاک کرنا تاکہ تواضع، فناعت، توبہ، صبر، خوف، رجائے، محبت وغیرہ پیدا ہوں۔

(3) غیبت، جھوٹ، اکل حرام، خیانت وغیرہ اس قسم کے گناہوں سے اعضاء وغیرہ کو پاک رکھنا۔

(4) کپڑے اور بدن کو نجاست سے پاک رکھنا۔

آپؒ کے نزدیک بدن اور کپڑے کی طہارت و پاکیزگی کی طرف تو سب لوگ متوجہ ہوتے ہیں حالانکہ یہ تو آخری درجہ کی پاکی ہے اس میں توجہ اور انہاک کی وجہ یہ ہے کہ طہارت کی باقی اقسام سے یہ آسان ہے اور اس سے نفس بھی خوش ہوتا ہے اور آرام بھی محسوس کرتا ہے بشرطیکہ طہارت کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھا جائے مثلاً وسوسہ اور اصراف کو اس میں دخیل نہ کرے اگر ان چیزوں کو اس میں دخیل کیا تو وہ طہارت مکروہ ہو جائے گی، چادر سر پر

اور ہنا، پاک پانی، خاموشی کا انتیار کرنا، سوچوں پر پابندی رکھنا اور خصوصاً بچوں کو طہارت کا طریقہ سکھانا وغیرہ یہ وہ احتیاطی تدابیر ہیں جس سے ظاہری و باطنی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔²⁸

امام غزالیؒ کے نزدیک متوازن کردار کے لئے نفس کی تربیت بہت ضروری ہے اور اہل قلب نے اپنے نفسوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا ہے جو باز کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جب اسے ادب سکھانے اور اس سے وحشت دور کرنے کا ارادہ ہوتا ہے تو اولاً اسے ایک اندر ہیرے کرے میں قید کر دیا جاتا ہے اور اس کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں تاکہ وہ فضا میں اڑنا چھوڑ دے اور اڑنے کے متعلق اپنی فطرت کو بھول جائے پھر اسے گوشت کھلا کر اس میں نرمی پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنے مالک سے اس طرح مانوس ہو جائے کہ اس کے بلانے پر حاضر ہو جائے اور جہاں اس کی آواز سننے اس کی طرف لوٹ آئے۔ نفس کی مثال بھی اسی طرح ہے کہ وہ اپنے رب کے ذکر سے مانوس نہیں ہوتا جب تک پہلے اس کی بری عادت کو خلوت اور گوشہ نشینی سے دور نہ کیا جائے کہ وہ اس کے ذریعے مانوس چیزوں سے اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کریں پھر دوسرے مرحلے میں اسے خلوت و گوشہ نشینی میں شنا، ذکر اور دعا کا عادی بنایا جائے تاکہ اس پر دنیا اور دیگر تمام شہوات کی انسیت کے مقابلے میں اللہ کی انسیت غالب ہو جائے شروع میں یہ کام مرید پر مشکل ہوتا ہے پھر آخر میں وہ اس سے لذت محسوس کرتا ہے جس طرح بچے کو دودھ چھڑانا ایک مشکل امر ہوتا ہے لیکن رفتہ رفتہ ماں کے دودھ کے مقابلے میں کھانے سے مانوس ہو جاتا ہے۔ آپؐ نے انسانی کردار و شخصیت کی پہچان، رویوں اور عادات بننے کے طریقوں اور ظاہری و باطنی بیماریوں کے اسباب و جوہات کو مثالوں کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔

خواجہ نصیر الدین طوسیؒ اور کردار سازی

نصیر الدین طوسیؒ ۱۲۰۱ء میں طوس پیدا ہوئے اور ۱۲۷۴ء میں بغداد میں وفات پائی۔³⁰ تیرھویں صدی کے بڑے مشہور مفکر تھے آپ کے بنیادی موضوعات میں اخلاقیات، تاریخ، طب، منطق، علم نجوم اور شاعری وغیرہ شامل ہیں۔ آپؐ کے نزدیک انسانی کردار کے تشکیل کے اہم عناصر درج ذیل ہیں:

فطرتِ انسانی

آپؐ کے نزدیک انسان کی اخلاقی فطرت اس کی روح کی ایک عادت ہے جو کہ انسان کے عمل پر اثر انداز ہوتی ہے۔ انسان کی وہ نفسیاتی خوبی جو جلد زوال پذیر ہو جائے اسے صرف ”حالت“ کہا جاتا ہے لیکن جو دیرے سے زوال پذیر ہو اسے ”عادت“ کہتے ہیں۔ لہذا عادت ایک نفسیاتی خوبی ہے اور یہ فطرت کا لُبِ لباب

ہے۔ خواجہ نصیر الدین کے مطابق کسی بھی مخصوص عمل و اخلاق کی وجہ انسان کی قوتِ ارادی کے سبب ہے۔ وہ قوتِ ارادی جو ثابت قدیم اور عمل سے عادت بن چکی ہوتی ہے۔ ان تینوں مکتبہء فکر میں آخری درست ہے کیونکہ پچھے و جوان اپنی تربیت اور لوگوں سے تعلقات کے زیر اثر کردار اپناتے ہیں۔ پہلی اور دوسری مکتبہء فکر کے لوگ تربیت، تعلیم، حکومتی و مذہبی قوانین کے منکر ہیں۔ کچھ حقائق عیاں بالذات ہوتے ہیں جیسے پانی کا نیچے کی طرف بہنا یہ پانی کی فطرت ہے کہ نیچے کی طرف بہتا ہے کوئی اسے بدل نہیں سکتا اسی طرح آگ کی فطرت گرم ہے۔ اسی طرح اگر کردار قدرتی ہوتا تو ذہین لوگ بچوں کو ادب سکھانے اور جوانوں کی اصلاح کرنے کے لئے ہدایات نہ دیتے اور نہ ہی ان کے اخلاق کو درست کرنے کے لئے اس طرح کی ہدایات کام آتیں۔

اگر ایک انسان ایسے نو مولود پچے کی عادات و فطرت پر خصوصی توجہ دے جس کا ماحول یا جگہ بار بار بدلتا ہو تو وہ بالآخر مشاہدہ کر سکتا ہے کہ نو مولود اپنی نئی جگہ پر ابتداء میں تو اپنی قدرتی ضروریات کا مظاہرہ کرتا ہے کیونکہ اس کی وجوہات کی قابلیت پروان نہیں چڑھی ہو تیں جس کی بناء پر وہ اپنی حالت و قوتِ ارادی کو چھپا سکے لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد نو مولود نئے ماحول کے مطابق تبدیل ہو جاتا ہے۔

ہدایات و تربیت

ٹو سی³¹ کے نزدیک کردار سازی میں ہدایات و تربیت کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ ہر انسان کے اخلاق الگ ہیں اور اس کا قدرتی رجحان بھی، اگر قواعد و ضوابط اور حکومت کو نظر انداز کیا جائے اور انسان کو اپنے مزاج کے مطابق حکومت کرنے دی جائے تو ہر انسان اپنے حالات کے مطابق حکومت کرے گا وہ قیدی بھی ہو سکتا ہے اور بھوکا بھی جو کہ اس وقت اس کی قدرتی حالت ہو گی۔ انسان کا سب سے پہلا استاد اس معاملے میں احکامات الہیہ ہیں اس لئے ماں باپ پر لازم ہے کہ پچھے کو احکامات الہیہ کے قریب لائیں اور ان احکامات کو عمل میں لانے کے لئے ہدایات و رہنمائی دی جائے۔³¹

طبعی صلاحیتیں

انسان کی روح میں تین مختلف طبعی صلاحیتیں ہیں جو کہ قوتِ ارادی کی موجودگی میں مختلف عمل اور ردِ عمل کا سبب بنتی ہیں۔ جب ان میں سے کوئی ایک صلاحیت دوسری سے آگے بڑھتی ہے تو پہلی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صلاحیتیں درج ذیل ہیں:

- ۱۔ قوتِ مدر کہ یا عقل کی قابلیت جسے ملکوئی روح بھی کہا جاتا ہے۔ اسی طاقت کو استعمال کر کے انسان چیزوں کی حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے۔
- ۲۔ دوسرا غضب کی قوت ہے جسے جنگلی روح کہا جاتا ہے۔ جو کہ نیاد ہے غصے کی، ہمت کی، مشکلات کا سامنا کرنے کی، اصولوں پر قائم رہنے کی اور کامیابی و ترقی حاصل کرنے کی قوت کہلاتی ہے۔
- ۳۔ تیسرا مشتی (بھوک) کی قوت جو کہ بہیانہ طرزِ انداز ہے۔ یہ قوت سببِ بُتی ہے بھوک، عورت، پانی اور اعضاء سے خوشی حاصل کرنے کی، روح کے سارے نیک اعمال انہی طاقتوں کے مطابق ہیں۔
- ۴۔ قوتِ مدر کہ میں توازن**

جب بھی قوتِ مدر کہ یا عقل کی قوت کی حرکت اپنے آپ میں توازن میں ہوگی اور اس کی خواہش کچھ علوم کے حصول کی ہوگی تو اس حرکت سے نیک علوم حاصل ہوں گے یعنی کسی بھی عمل کی نیکی کے لئے اس کے اسباب کا توازن میں ہونا ضروری ہے۔ اور اس نیکی کا نتیجہ دانتی ہے۔

۵۔ قوتِ غضب میں توازن

غضب کی قوت میں توازن ہونے کی صورت جو عمل ظاہر ہوتا ہے وہ میانہ روی کا ہوتا ہے اور اس کا نتیجہ ہمت اور بہادری کا نیک عمل ہے۔

۶۔ قوتِ مشتی میں توازن

جب مشتی قوت توازن میں ہوتی ہے۔ تو اس توازن کی حرکت سے عصمت کی نیکی پیدا ہوتی ہے۔ اور آزاد خیالی کی نیکی جنم لیتی ہے۔ قوتِ غضب اور قوتِ بھوک اس وقت توازن میں آتی ہیں جب وہ قوتِ مدر کہ یا قوتِ عقل کے ماتحت ہوں۔

جب ان تین طرح کے عوامل کی نیکیاں جمع ہو جائیں تو ان کے ہونے سے ایک یکساں حالت پیدا ہوتی ہے جو ان نیکیوں کی تکمیل اور کمال کو ظاہر کرتی ہے اور اس حالت کو انصاف کہتے ہیں۔

دوسرا الفاظ میں ہم کہ سکتے ہیں کہ انسان کی روح میں دو قابلیتیں پائی جاتی ہیں ایک اپنی ذات کا اور اک کرنا اور دوسرا جسم کے حصوں کی حرکات کا سبب ہونا۔ ان دونوں کے مزید وحصے ہیں۔

قوتِ اوراک

قوتِ اوراک کے وحصے ہیں: "قیاسی قوت" (سوچ بچار) اور "عملی قوت"۔

قوتِ محركہ

قوتِ محركہ کے دو حصے ہیں: "قوتِ مخالفت" اور "قوتِ کشش"۔

اس طرح کل چار قوتیں ہیں جب ان میں سے ہر ایک کا کھڑول اپنے مقاصد میں اس طرح ہو کہ وہ توازن میں ہو تو ایک نیک عمل جنم لیتا ہے۔

نیک عوامل

اس طرح کردار کے نیک عوامل چار طرح کے ہیں:

۱۔ دانائی ۲۔ ہمت ۳۔ پرہیز، عصمت ۴۔ انصاف۔

کوئی بھی انسان کسی ایک بھی درجے کے بغیر تعریف کا حق دار نہیں بتتا:

۱۔ قوتِ عقل کی تربیت سے دانائی حاصل ہوتی ہے۔

۲۔ قوتِ عمل کی تربیت سے انصاف پیدا ہوتا ہے۔

۳۔ قوتِ غصب کی تربیت سے ہمت حاصل ہوتی ہے۔

۴۔ بھوک کی قوت کی تربیت سے عصمت اور دباؤ کی خوبی پیدا ہوتی ہے۔

نیک عوامل کی تعریفات

۱۔ "данائی" علم کے حصول کا سبب بنتی ہے یہ علم دو طرح کے ہیں ایک آگاہی اور دوسرا عامل کے قابل یعنی عقلی اور عملی علم۔

۲۔ "ہمت" یہ ہے کہ قوتِ غصب کا قوتِ عقل کے ماتحت ہونا کہ انسان مشکل حالات میں احتجاج کا رودیہ اختیار نہ کرے اور اس کا عمل انصاف پر مبنی ہو۔

۳۔ "عصمت" عصمت یہ ہے کہ بھوک کی قوت، قوتِ عقلی کے تابعدار ہو اور اس میں آزادی کا عمل رونما ہو۔

۴۔ "النصاف" یہ ہے کہ تمام طاقتیں ایک دوسرے کی موافقت سے کام کریں تاکہ ایک طرف مخالفت اور دوسری طرف کھاپا نہ ہو۔³²

نیک عوامل کی خوبیاں

"دانائی" کے زمرے میں جو خوبیاں آتی ہیں وہ سات ہیں: ۱۔ سمجھنے کی طاقت ۲۔ حاضر جوابی ۳۔ ذہن کا صاف ہونا ۴۔ سیکھنے میں آسانی ۵۔ ذہانت کی برتری ۶۔ بھول جانا ۷۔ یاد کرنا۔ دانائی کی یہ خوبیاں مختلف عادات کو اپنانے سے کردار کا حصہ بنتی ہیں۔ مثال کے طور پر حاضر جوابی تب حاصل ہوتی ہے جب انسان جلد تجاوز پیش

کرنے اور حتیٰ فیصلہ کرنے کی عادت اختیار کر لے۔ یعنی عادت اختیار کرنے سے اور تربیت سے روح میں یہ کردار پیدا ہوتے ہیں۔

”ہمت“ کے زمرے میں گیارہ نکات ہیں: ۱۔ روح کی عظمت ۲۔ بہادری ۳۔ اعلیٰ نظری ۴۔ ثابت قدمی ۵۔ نرمی ۶۔ سکوت ۷۔ جسمانی طاقت ۸۔ متحمل ۹۔ عاجزی ۱۰۔ ہمدردی ۱۱۔ عزت کا احساس۔

”بہادری“ یہ ہے کہ انسان اپنے کردار میں اپنی ثابت قدمی پر بہت پر اعتماد ہو کہ خوف و پریشانی کی کسی حالت میں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ثابت قدمی یہ ہے کہ انسان کے کردار میں تکالیف اور مخالفتوں کے خلاف جانے کی قوت مضبوط ہے۔

”عصمت“ کے زمرے میں بارہ نکات ہیں: ۱۔ شرم و حیا ۲۔ اکساری ۳۔ صحیح رہنمائی ۴۔ احسن پسندی ۵۔ سکون ۶۔ تحمل ۷۔ قناعت ۸۔ کشش ۹۔ اعتدال پسندی ۱۰۔ نظم و ضبط ۱۱۔ آزادی ۱۲۔ آزاد خیالی۔

”انصار“ کے زمرے میں بارہ نکات ہیں: ۱۔ اخلاص ۲۔ ہم آہنگی ۳۔ ایمانداری ۴۔ بہن بھائیوں کی محبت ۵۔ فکر ۶۔ جزا دینا ۷۔ اچھی دستی ۸۔ منصفانہ فیصلے ۹۔ محبت ۱۰۔ احساس ذمہ داری ۱۱۔ بھروسہ ۱۲۔ کام میں لگن۔

یہ ساری نیکیوں کا خلاصہ ہے اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملا کر مزید اچھائیاں پیدا ہوتی ہیں۔³³

نظم و ضبط

کوئی بھی انسان اندر سے صرف نیکی کی حالت میں پیدا نہیں ہوتا یہ نظم و ضبط سے حاصل کی جاتی ہے جب کہ یہ اکثر ہوتا ہے کہ انسان کا ابتدائی حالت میں نیکی کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے، اچھے اعمال سیکھنے والے طالب علم کو صرف وہی اعمال کرنے چاہیئے جو کہ نیکی کی طرف ہوں تاکہ اس کی روح میں یہ عادات پتختہ ہو جائیں اور اس سے ایسے اعمال پر با آسانی عمل ہو سکے۔ قوت اور اک اور قوت محکم دونوں میں سے انسان کو سب سے پہلے اپنی قوت اور اک یعنی قوت عقل کی اصلاح کرنی چاہیئے جب انسان سیکھنے کا آغاز کرتا ہے تو اسے سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیئے کہ وہ کس طرح اپنے دماغ کو ادھر ادھر بھکلنے سے روک سکتا ہے اور اس کی ساری توجہ علم کے حصول کی طرف ہونی چاہیئے تاکہ دماغ کو تلقین کی لذت حاصل ہو اور ہمیشہ سچائی کے ساتھ رہنا اس کی عادت بن جائے اس کے بعد سارے ادھیان اسے اس بات پر لگانا چاہیئے کہ چیزوں کی حقیقت کیا ہے اور ان کی اصل فطرت کیا ہے اسے ابتداءً معقول چیزوں کے اصول و ضوابط کے علوم سے کرنی چاہیئے اور انہا تمام موجودات کے وجود کے اصولوں کے علوم سے کرنی چاہیئے۔ اگر وہ اس انہتا کو پہنچ گیا تو اس نے ان تینوں طاقتوں کی اصلاح کر لی جن کی بنا پر نیک کردار تشكیل پاتے ہیں۔³⁴

عادات کی پختگی

جب روح اچھی اور نیک ہو اور نیکی (اچھے کردار) کے حصول میں سرگرم ہو اور اپنی طاقت علم سے حاصل کرے تو ایسا کرنا انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسی سوچ رکھے جو ان خوبیوں کو ہمیشہ برقرار رکھتی ہے۔ روح کی ان عادات کو برقرار رکھنے کا ایک اصول یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے جن میں یہ اعلیٰ خوبیاں پائی جاتی ہوں۔ انسان کی روح پر کسی چیز کا اتنا گہرا اثر نہیں ہوتا جتنا ایک ساختی اور گہرے دوست کا اس لئے سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسے کردار کے لوگ جو بھوک اور ہوس کے شیدائی ہوں یا جن کے کردار میں اوپر بیان کی گی خوبیاں نہ پائی جاتی ہوں ان سے نہ ملا جائے۔ بروں کی صحبت سے پر ہیز کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے اندر قدرتی طور پر جسمانی لذتوں سے محبت کا رجحان پایا جاتا ہے۔³⁵

انسانی قوتوں میں توازن

جس طرح جسمانی بیماریاں دوائیوں سے دور کی جاتی ہیں اسی طرح نفسیاتی برائیاں بھی قابل علاج ہیں انسان میں جو تین طرح کی قوتیں پائی جاتی ہیں وہ درج ذیل ہیں:

(۱) قوت مخالفت (۲) قوت کچھاؤ یا ندر (۳) قوت امتیاز، ان میں زوال اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ان میں سے کسی قوت کی مقدار یا معیار میں کمی ہو اور اس کی وجہ سے روح کی جنم لیتی ہیں وہ یہ ہیں: حسد، غصہ، کینہ پروری، خودسری، انتقام کی خواہش، بیوقوفی، لالج، سبب پندی، ہوس، خوف، اداسی اور خواہش وغیرہ۔ خواہش، خوف اور اداسی کا تعلق قوت مدرسہ کی بیماری سے ہے اور یہ سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس طرح بنایا ہے کہ نفسیاتی اور جسمانی دونوں ایک دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں اگر روح پر غصے، زیادہ خواہشات اور دکھ کے اثرات ہوں تو یہ اس کے جسم پر بھی رونما ہوتے ہیں جیسے کہ غصے کا اظہار کرنا، کانپنا، لا غر ہونا۔ اسی طرح اگر جسمانی صحبت اچھی نہیں تو روح کی طاقتیں اثر انداز ہوتی ہیں جیسے کہ اچھے برے میں امتیاز نہ کر پانا، تخيّلات کا خراب ہونا، طاقتوں اور عادتوں کو استعمال میں نہ لانے کے قابل ہونا اس لئے روح کی بیماریوں کا علاج کرنے سے قبل یہ جاننا ضروری ہے کہ اس کا سبب کیا ہے اور طب میں علاج کے چار طریقے درج ذیل ہیں: (۱) خواراک (۲) دوا (۳) زہر (۴) جرابی یا داغنا۔ نفسیاتی بیماریوں کے بھی بھی طریقے کار ہیں۔ ۱۔ سب سے پہلے اس برائی کا خلل جانے کی ضرورت ہے جس کا انسان علاج کرنا چاہتا ہے۔ ۲۔ اس برائی سے کیا خرابی اور تباہی پیدا ہو سکتی ہے۔ ۳۔ یہ تباہی ایمان کے معاملے میں ہے یاد نیاوی معاملات میں پیدا ہو سکتی ہے۔

اگلے مرحلے اس برائی کو معقول قوت ارادی کے طریقے سے نکالنا ہے اور اگر یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو بہتر ورنہ انسان کو ایسے کام کرنے چاہیئے جو اس برائی کے لاث ہوں یعنی اس کے لاث نیکی کرنی چاہیے اور اس عمل کو بار بار دہرانا چاہیئے یہ علاج اسی طرح ہے جس طرح جسمانی پیاری کے لئے بہترین خوراک پہلا علاج ہے۔ اگر اس علاج سے بھی کام نہیں ہوتا تو انسان کو اپنے آپ کو ڈاٹنے اور ملامت کرنے کے طریقے اختیار کرنے چاہیئے اسپنے الفاظ سے یا عمل سے، اگر پھر بھی انسان کا کردار وہی برے عمل دہرائے تو اس کا تیسرا علاج اسے کڑی سزا دینا ہے، اس سے عہد لینا اور اسے کسی مشکل کام میں ڈالنا ہے۔³⁶

امام طوسیؒ روح کے جو خواص بتاتے ہیں وہی کردار سے تعلق رکھتے ہیں ان کے نزدیک نیک یعنی اعلیٰ اخلاق کا مادہ روح میں پایا جاتا ہے۔ ان کے بقول انسان کی روح میں اچھائی اور برائی دونوں طرح کے رجحانات پائے جاتے ہیں کسی کی روح میں اچھائی کے زیادہ اور کسی کی روح میں برائی کے زیادہ رجحانات ہوتے ہیں لیکن حقیقت میں ہر روئے میں انسانی پیدائش کے وقت اچھائی کا مادہ زیادہ ہوتا ہے۔ برائی کو اچھائی سے بدناہی اچھے کردار کی تشکیل ہے اور اور عین ممکن ہے اگر انسان ہر عمل میں اچھائی کی بجائے برائی، برائی کی بجائے اچھائی کو اختیار کرے کیونکہ ہر عمل کا ایک متفاض ہے۔ ہر برعے عمل کی جگہ اچھا عمل، اگر بری فطرت کے انسان کو اچھا عمل کرنے کے لئے بار بار مجبور کیا جاتا رہے تو یہ اچھا عمل کرنے کی عادت اس میں پیوستہ ہو جاتی ہے اور کردار کا حصہ بن جاتی ہے گویا کردار کی تشکیل کا سب سے اہم طریقہ انسان میں موجود طبعی صلاحیتوں پر قابو، قوتوں میں توازن اور تعلیم و تربیت کے طریقوں سے عمل کو بار بار دہرانے میں ہے۔

علامہ محمد اقبال³⁷ اور کردار سازی

علامہ محمد اقبال ۹ نومبر ۱۸۷۷ء کو سیالکوٹ (پنجاب، پاکستان) میں پیدا ہوئے۔³⁷ اور ۲۱ اپریل ۱۹۳۸ء کو لاہور میں وفات پائی،³⁸ آپ یہیوں صدی کے معروف شاعر، فلسفی اور مفکر تھے۔ آپ نے انسانی کردار کی تشکیل پر بہت زور دیا ہے۔ انسانی کردار اپنانے کی اہمیت کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں:

مشل جیوال، خوردن، آسودن چہ سود گرجخود محکم نہ بودن چہ سود³⁹

اقبال⁴⁰ کے نزدیک انسان کو جیوال کی طرح کھانے سونے میں کیا فائدہ حاصل ہو سکتا ہے انسان کو مخلوق میں اشرف مقام ملا ہے۔ اور اگر انسان اپنے کردار کو مطبوط و مستحکم نہیں بنائے گا تو انسان و جیوال کے جود کا فرق ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ محکم بودن (مضبوط و مستحکم کا ہونا) کا حکم ہی اس لیے دیتے ہیں تاکہ انسان محکم اخلاق عالیہ اور مستحکم اخلاق عظیم ہو۔ اور انسانی کردار با مقصد، با معنی اور با مراد ثابت ہو۔

علم: علامہ اقبالؒ کے تصور کردار میں "علم" کو بنیادی حیثیت حاصل ہے۔ آپؒ کا تصور علم، تصور کردار کے ساتھ مربوط ہے۔ آپؒ فرماتے ہیں۔

وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں جس علم کا حاصل ہے دو کف جو!!⁴⁰

آپؒ کے نزدیک وہ علم جو صرف شکم سیری کے لئے ہو بلند معیار زندگی کے لئے نہ ہو یعنی علم برائے معاش ہو وہ زہر یا ہے، علم اگر صرف ظاہری طور حاصل کیا جائے تو یہ سانپ ہے اور علم اگر جال پر وارد ہو تو یہ ظاہر و باطن کے لئے روشنی بن جاتا ہے۔ آپ جس علم کے داعی ہیں اس کا بنیادی مقصد انسان ساز، اخلاق ساز، کردار ساز اور شخصیت ساز بنانا ہے۔

علم و حکمت رہن سامانِ اشک و آہ ہے یعنی اک الماس کا نکر اولِ اگاہ ہے⁴¹

علم اور دانائی آپؒ کے نزدیک زندگی کے سارے غنوں کا علاج ہے اور یہ اس ہیرے کی مانند ہے جو انسان کو مضبوط کردار بنانے کے لئے ہر وقت باطنی قوت فراہم کرتا ہے۔ اسی باطنی قوت کی پہچان کو آپ خودی سے تعبیر کرتے ہیں۔ اور علم کا حاصل بھی خودی کی اجاگری کو تواریخیتے ہیں۔

خودی ہو علم سے محکم تغیرتِ جبراۓلؒ اگر ہو عشق سے محکم تصورِ اسرافیلؒ⁴²

خودی: آپؒ کے نزدیک جب علم کے ذریعے خودی بیدار ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی کردار کی تربیت و تکمیل کا کام شروع ہو جاتا ہے۔

گرہن میں نہیں تعمیر خودی کا جوہر وائے صورت گری و شاعری و نالے و سرو⁴³

آپؒ کے نزدیک تعمیر خودی، تعمیر اخلاق، تعمیر کردار ہی کا نام ہے۔

خودی کے عوامل

قوتِ اوراک

ہوا گرخودِ نگر و خودِ گر و خودِ گیری یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی نہ مر سکے⁴⁴

اقبالؒ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنی خودی (اور اک ذات) کو پہچان لیا، اس کی حفاظت کی اور خودی کی بلندی حاصل کرنے کے لئے کام کیا تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ موت بھی تمہیں مار سکے۔ تم ایسے کردار عالیہ کے مالک بن جاؤ گے کہ موت بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ دونوں جہانوں میں کامیابی تمہارا مقدار بنے گی۔

باتی نہ رہی تیری وہ آئینہِ ضمیری اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری⁴⁵

اے مرد مسلمان کبھی تیرا ضمیر آئینے کی طرح ہلا۔ اور تو اپنی اس باطنی قوت سے برائی اور اچھائی میں فرق قائم رکھتا تھا۔ اگر انسان کا ضمیر زندہ ہو، تو اصل شاہی، اصل ملائی اور اصل بیرونی کاراز حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ساری روشنیوں کے مقام تیرے اندر موجود ہیں جس ان کو جگانے کی ضرورت ہے۔

شب خود روشن از نور یقین کن یہ بیضا برو از آستین کن⁴⁶

اپنی تاریک رات زندگی کو شمع یقین سے روشن کرو، یقین یہ بیضا ہے اس کو آستین سے نکالو اور ماحول کو روشن کرو قوتِ یقین ایک وجوبی صلاحیت ہے جو ہمارے طبعی شعور کے قریب موجود رہتی ہے۔ یہ شعور کی ایک ایسی نوع ہے جو ہمیں بعض ایسے مشاہدات سے آکاہ کرتی ہے جو ہمارے لئے علم اور عطا یہ حیات کا ذریعہ بن سکیں۔ اور یہی قوتِ یقین خودی کی قوتوں کو ایک مرکز پر لاتی ہے اور اس طرح ایک نئے کردار کی تغیر ہوتی ہے۔

شعور و حیات

اب تک ہے روں گرچہ لہو تیری رگوں میں نہ گرمی افکار، نہ اندریشہ بے باک
اگر تو زندہ ہے اور تیری شریانوں میں خون دوڑ رہا ہے لیکن کیا بات ہے کہ نہ تیرے خیالات یا قوتِ متخینہ میں کوئی حرارت ہے اور نہ تیری سوچ میں کوئی بے خوفی ہے۔ سچائی انسان کی رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے اور انسان کی سوچیں خوف کے بغیر کام کرتی ہیں۔

روشن تو وہ ہوتی ہے، جہاں بیں نہیں ہوتی جس آنکھ کے پردوں میں نہیں ہے نگہ پاک⁴⁷
اس شعر میں اقبال⁴⁸ کے نزدیک جہاں میں آنکھ جب نگہ پاک کا مقام حاصل کر لیتی ہے تو دنوں جہاںوں کو دیکھنے والی اور معاملات جہاں کے مقصدیت کو نگہ پاک (پاکیزہ آنکھ) سے دیکھنے والی بن جاتی ہے۔ وہ نگاہ عشق حق سے پاک ہو جکی ہوتی ہے اسی نگاہ کی بدولت جو بے جایی کو دیکھنے سے رکی ہوئی ہیں اور یہ نگاہ بغیر روشنی کے دنیا کے معاملات کی حقیقت کو پانے کے قابل نہیں ہوتی ہے۔

قوتِ ارادی

اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورتِ فولاد⁴⁸
جب انسان کے ادرائک، شعور، حیات، خیالات اور خودی کے ہر بنیادی عضر کو روشنی ملنا شروع ہو جاتی ہے تو وہ اپنی مضبوط قوتِ ارادی سے اپنے عمل کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔
رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مو من ہو حلقة یاراں تو بریشم کی طرح نرم

قوتِ یقین

علامہ محمد اقبال^{۵۰} کے نزدیک:

علاج ضعفِ یقین اس سے ہو نہیں سکتا غریب گرچہ ہیں رازی کے نکتہ ہائے دقيق

علامہ اقبال^{۵۱} ضعفِ یقین جو ضعف کردار کا سبب ہے اس کا حل چاہتے ہیں۔ شک و ارہاب میں الجھ کر بے ربطی کردار پیدا ہوتی ہے۔ وہ نکتہ ہائے دقيق، باریک، عین، عجیب کارڈ کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ:

ذریعہ حصول یقین علم از کتب، دین از نظر^{۴۹}

علم کا حصول آپ کے ہاں منزل یقین ہے۔ مئے یقین کا شر، عظیم سوز و گداز کی نعمت کبریٰ ہے۔ بے یقینی اور شک و ارہاب زندگی کی کتاب کو ورق ورق کر دیتی ہے۔ استحکام کردار، یقین حکم کی بدولت حاصل ہوتا ہے۔

قوتِ عمل

ہر کوئی مستر مئے ذوقِ تن آسانی ہے تم مسلمان ہوا یہ اندازِ مسلمانی ہے!^{۵۰}

تن آسانی اور مسلمانی دو چیزوں کا جمع ہونا محال قرار دیتے ہیں۔ آپ کاشاہین ہو یا مرد کامل، نمونہ عمل مسلسل ہے۔ عمل جنت اور دوزخ سے وابستہ ہو تو فکر غیروں کے دستر خواں سے طلب کرتے ہیں۔ عمل بے غرض اور بے ہوس نفس ہو تو ور خوان من اللہ اکبر خدا کی رضا مقصد اعلیٰ قرار پاتی ہے۔

خودی کے تربیتی مراحل

علامہ اقبال^{۵۲} کے نزدیک کردار کی نشوونما کے لئے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ اقبال^{۵۳} میں اس امر سے بھی اگاہ کرتے ہیں کہ خودی کے خصائص و اوصاف کا اکتساب کس طور سے کیا جاسکتا ہے۔ خودی میں وہ تربیت خودی کے تین مرافق اطاعت، ضبطِ نفس اور نیابتِ الہی کا ذکر کرتے ہیں نیزان کے ہاں عشق، عقل و خرد، عمل و حرکت اور فقر خود کو یکجا حکم کر دینے والے عوامل یہں جو انسان کی صلاحیتوں اور امکانات کو عملی صورت میں بدل دیتے ہیں۔

نرم دم گھنگو، گرم دم جبو رزم ہو یا بزم ہو پاک دل و پاک باز^{۵۴}

تحتی، کرختی، تنجی، شدت اور جدت فطرتِ ثانیہ بن چکی ہیں اور پھر بھی ہم خیر کے طالب ہیں۔ یہ طرزِ زندگی پر بدل کر ہی ہم اپنے کرداروں کو بدل سکتے ہیں۔ اور اپنے مقاصد میں کامیابیاں حاصل کر سکتے ہی سکتے ہیں۔

ضبطِ نفس

دوسری مرحلہ ضبطِ نفس کو قرار دیتے ہیں۔ اس سے مراد تحرید، ترک دنیا اور رہبانیت نہیں بلکہ ضبطِ نفس یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کا حکم ہو مکحوم نہ ہو۔

مرد شو آور زمام اور یکف ⁵² تاثوی گوہرا گرباشی خزف

اقبال کہتے ہیں کہ مسلمان اگر کائنات کو مسخر کرنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ پہلے اپنے نفس کو مسخر کریں، یعنی نفس کے طبعی رججنات و میلانات کو قابو میں لانا اور اس کو تزریقی پر آمادہ کرنا بہت بڑی عبادت ہے۔

نفس تو مثل شتر خود پر و است خود پرست و خود سوار و خود سر است

مرد شو آور زمام اور بکف ⁵³ تاثوری گوہرا گرباشی خزف

آپ کے نزدیک اگر نفس کی بیماریوں کو قابو میں رکھ لیا جائے تو انسان کے اندر گوہر بننے کی طاقت بھی رکھی گئی ہے۔

خودی کے تکمیلی عوامل

محبت والفت

اقبال کے نزدیک تکمیل کردار کے بنیادی عناصر میں محبت والفت بھی ایک اہم عضر ہے۔ آپ فرماتے ہیں: ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے نوع انسان کو اخوت کا بیاں ہوا جب محبت کی زبان ہوا جا

عشق

عشق سے پیدا نوائے زندگی میں زیر و بم عشق سے مٹی کی تصویروں میں سوزد مبدم ⁵⁵
اقبال کے خیال میں عشق ایک حرکی اور منظم قوت کا نام ہے جو اس کی صلاحیتوں کو رو بہ عمل لاتی ہے۔

عقل و خیالات

مردہ لادینی افکار سے افرنگ میں عشق عقل بے ربطی افکار سے مشرق میں عشق ⁵⁶

عقل بھی ایک ایسا عامل ہے جو انسانی کردار کی نشوونما کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اقبال عقل کو نور قرار دیتے ہیں جو شاہراہ حقیقت کو منور کرتی ہے۔ انسان کو مقاصد و اہداف کے ذریعے زندگی کی حرکت کو متعین کرنا سکھاتی ہے۔

اور تشكیل کردار علامہ اقبال کے نزدیک حیاء و غیرت انسانی کردار کی تشكیل میں بنیادی جزء ہے۔

غیرت ہے بڑی چیز جہاں تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کوتا ج سردار ⁵⁷

غیرت، حیثیت، حیاء اک قدر عظیم اور ایک خلق نفس ہے۔ مرد کامل کا اوڑھنا بچھونا حیثیت و غیرت ہے۔ اقبال کے نزدیک جب انسان مضبوط قوتِ ارادی سے سچائی اور بہادری کے راستے اپنا لیتے ہیں تو ان کے دل ہر خوف و خطرے سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ اور وہ ہر فریب، مکاری، دھوکہ دہی وغیرہ سے خود کو دور رکھتے ہیں۔

نتیجہ بحث

علامہ اقبال کے ہاں انسانی کردار دو پہلو رکھتا ہے ایک مادی اور دوسرا روحانی۔ انسانی کردار کارروائی پہلو ہی نفس یا کردار ہے جسے خودی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ اقبال کے خیال میں تمام کردار ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ان کی صلاحیت اور قوی میں بھی فرق پایا جاتا ہے۔ جس طرح یہ قوی مختلف کردار کا منفرد اظہار ہوتے ہیں اسی طرح کردار کے درجات و مراتب بھی متفاوت ہوتے ہیں۔ اقبال کردار سازی کے لئے علم، خودی (قوتِ ادراک، قوتِ خیالات، قوتِ یقین، قوتِ ارادی، برابری و مساوات، شعور و حسیات، خواہشات، عقل اور عمل مسلسل وغیرہ) کے حصول کو بنیاد قرار دیتے ہیں۔ یعنی خودی لمحہ بالمحاذقہ کی منازل طے کرتی رہتی ہے اقبال کی رائے میں غیر قانونیت ہر خودی کا مقدر نہیں بلکہ بقاء دوام کا اکتساب نیک اعمال اور خود افروزیت کے ذریعہ سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ بالفاظ دیگر بقاء دوام کا حصول جہد مسلسل ہی پر موقوف ہے۔ نصیر الدین طوسیؒ نے کردار سازی کے لئے قوتِ ارادی، ہدایات و تربیت، طبعی صلاحیتوں میں توازن، قوتِ ادراک اور نیک عوامل کا تنزد کرہ کیا ہے۔ لیکن اس مسلم روایت میں امام غزالیؒ واحد ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے پانچویں صدی میں اپنی ماہی ناز تصنیف "احیاء العلوم" میں کردار سازی کا جو طریقہ اپنایا ہے اس کی نظری موجودہ دور میں بھی نہیں ملتی ہے۔ آپؒ نے انسانی کردار کے کسی بھی گوشے کو نظر انداز نہیں کیا۔ آپؒ نے کردار انسانی کے لئے معرفتِ نفس، معرفتِ اعمال، حرکات، ادراک، قوتیں، سوچیں، خیالات رؤیے، تاثرات و انفعالات، ماحول، معاشرے، موروثی عوامل، محبت، امید، خوف وغیرہ جیسے ہر پہلو کو ہم آہنگ کر کے پیش کیا ہے۔

حوالہ جات

- 1- امام ابو محمد حسین بن مسعود ببغوی، شرح السنۃ للبغنوی، ج 7 کتاب الفضائل، باب فضائل سید الاولین و لاخرین (ندارد، دار الکتب العلمیہ، 1424ھ)، رقم الحدیث 3516۔
- 2- محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، ج 4، (ندارد، مکتبہ دارالسلام، 2007ء)، رقم الحدیث 102، 2018ء۔
- 3- ایضاً، حدیث 630۔
- 4- محمد بن عیسیٰ، جامع الترمذی، ج 4 (ندارد، مکتبہ دارالسلام، 2007ء)، رقم الحدیث 92-92002۔
- 5- سید، علی بن جعفر رضی، کشف الحجب، ج 4 (تہران، مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، 1978ء)، 97۔

- 6 .Fazal ul Rehman ,Dr.Avicenna's psychology, (Oxford University Press, London ,1952),vol 1, 480ff-10-
- 7- أبو عبد اللہ محمد فخر الدین، الرازی، کتاب انفس والروح وشرح قوامها (اسلام آباد، ادارہ تحقیقات اسلامی، 1968 ، 3-)۔
 - 8- شاہ ولی اللہ، جمیعت اللہ البارگہ، ج 1 (لاہور، قومی کتب خانہ، 1983)، 31-32۔
 - 9- سید محمد بن محمد حسینی، زبیدی، اتحاف الساواۃ استفہن، ج 1 (شهر نماد، دارالكتب العلمیة، 1430ھ) ، 9۔
 - 10- ایضاً، ج 1، 14۔
 - 11- امام، الغزالی، احیاء علوم الدین، ج 3 (کوئٹہ، مکتبہ رشیدیہ، نماد)، 151، 164۔
 - 12- ایضاً، 183۔
 - 13- ایضاً، 167۔
 - 14- ایضاً، 35۔
 - 15- ایضاً، 80-81۔
 - 16- ایضاً، 14، 15۔
 - 17- ایضاً، احیاء علوم الدین، ج 4، 289، 291۔
 - 18- امام محمد، الغزالی، الحسیران عمل (بیروت، المکتبہ العلمیہ، 1398ھ) ، 233-238۔
 - 19- الغزالی، امام محمد، منہاج العابدین، (بیروت، لبنان، دارالطباطبائی، 1422ھ) ، 127، 118-119۔
 - 20- ایضاً، 222-227۔
 - 21- ایضاً، 47-29۔
 - 22- ایضاً، 501-504۔
 - 23- الغزالی، امام محمد، احیاء علوم الدین، ج 3، 81۔
 - 24- الغزالی، الحسیران عمل، 211۔
 - 25- الغزالی، احیاء علوم الدین، ج 3، 15۔
 - 26- امام محمد، الغزالی، کیمیائے سعادت (تہران، علمی و فرهنگی مکتبہ، 1318ھ) ، 50-52۔
 - 27- ایضاً، 66-67۔
 - 28- ایضاً، 112-113۔
 - 29- الغزالی، احیاء علوم الدین، ج 3، 207-208۔

- 31۔ خواجہ نصیر الدین، طوکی، انعامی، ناصری، (نداد، انتشارات علمیہ اسلامیہ، ندارد)، 64-69۔
- 32۔ ایضاً، 71-74۔
- 33۔ ایضاً، 57-79۔
- 34۔ ایضاً، 91-92۔
- 35۔ ایضاً، 95-97۔
- 36۔ ایضاً، 131-136۔
- 37۔ نقیر سید وحید الدین، روزگار فتحیں، ج 1 (لاہور، آتش نشان پبلیشورز، 1988ء)، 237۔
- 38۔ ایضاً، 238۔
- 39۔ علامہ، ڈاکٹر محمد اقبال، اسرارور موز (لاہور، اقبال اکادمی پاکستان، 2002ء)، 59۔
- 40۔ علامہ، ڈاکٹر محمد اقبال، ضربِ کلیم، (لاہور، اقبال اکادمی پاکستان، 2002ء)، 621۔
- 41۔ علامہ، ڈاکٹر محمد اقبال، بانگشِ درا (لاہور، اقبال اکادمی پاکستان، 2002ء)، 623۔
- 42۔ علامہ، ڈاکٹر محمد اقبال، بابِ جبریل، (لاہور، تاج کپنی، 1935ء)، 92۔
- 43۔ محمد اقبال، ضربِ کلیم، 112۔
- 44۔ ایضاً، 522۔
- 45۔ علامہ ڈاکٹر محمد اقبال، ارمغانِ حجازی (لاہور، اقبال کپور آرٹ پرنٹنگ ورکس، سن ندارد)، 248۔
- 46۔ محمد اقبال، اسرارور موز، 100۔
- 47۔ محمد اقبال، ارمغانِ حجازی، 247۔
- 48۔ محمد اقبال، ضربِ کلیم، 70۔
- 49۔ ایضاً، 41-44۔
- 50۔ ایضاً، 238۔
- 51۔ ایضاً، بابِ جبریل، 132۔
- 52۔ ایضاً، مشنوی اسرارور موز، 41۔
- 53۔ ایضاً، 46۔
- 54۔ ایضاً، بانگشِ درا، 307۔
- 55۔ ایضاً، بابِ جبریل، 32۔
- 56۔ ایضاً، 93۔

Bibliography

- Abu Dawood, Sulaymān ibn al-Ash‘ath, *Sunan Abi Dāwūd*, vol. 5. Maktba Dar al-Islam, 2008.
- Al-Ghazali, Imam. *Kimiya-ye Saādāt*. Tehran: Ilmi wa Farhangi Maktba, 1318AD.
- _____. *Al-Hikmah fī Makhlūqatillah*. Cairo: Maktbah al-Feel, nd.
- _____. *Al-Mīzān al-Amal*. Beirut: Al- Maktba al-Ilmiyyah, nd.
- _____. *Iḥyā' Ulūm al-Dīn*, vol. 3. Quetta: Maktba Rashidiyyah, nd.
- al-Rahman, Fazal. *Avicenna's Psychology*, vol. 1. London: Oxford University Press, 1952.
- Al-Razi, Abu Abdullah Mohammad Fakhr al-Din. *Kitab al-Nafs wa al-Rūh wa Sharh Qawahuma*. Islambad: Idarah Tahqiqāt-e Islami, 1968.
- Baghvi, Imam Abu Muhammad Hussain b. Masoud. *Sharah Alsinaḥ Li Baghvi*, vol. 7. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1428AH.
- Faqīr, Sayyid Wahid al-Din. *Rozgar-e Faqeīr*, vol. 1. Lahore: Aatishfishān Publisher, 1981.
- Hajveri, Sayyid Ali. *Kashf al-Mahjūb*, vol. 4. Tehran: Markaz-e Tahqiqāt-e Farsi Iran wa Pakistan, 1978.
- Iqbal, Allama Mohammad. *Asrār wa Ramūz*. Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 2002.
- _____. *Bang-e Dara*. Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 2002.
- _____. *Zarb-e-Kaleem*. Lahore: Iqbal Academy Pakistan, 2002.
- _____. *Bal-e Jibrīl*. Lahore: Taj Company, 1935.
- _____. *Armughan-e Hijazi*. Lahore: Iqbal Kapur Art Printing Works, nd.
- Mohammad b. Isa. *Jame’ al-Tirmizi*, vol. 4. Maktba Dar al-Islam, 2007.
- Mohuddin Novi. *Riaz al-Saliheen*, vol 1, Al Maktab Al-Islami 1992.
- Tusi, Khawaja Nasir al-Din. *Akhlāq-e Nasiri*. Intashrat Ilmia Islamia, nd.
- Waliullah, Shah. *Hujjah al-Baligha*, vol. 1. Lahore: Qumi Kutub Khana, 1983.
- Zubaidi, Sayyid Mohammad b. Mohammad Husyni, *Ittihāf al-Sāda al-Muttaqīn*, vol. 1. Dar al-Kutab al-Ilmiyyah, 1430AH.